



سوال

(364) زیورات کا نصاب

جواب

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

ایک شخص کی بیٹیاں ہیں، اس نے انہیں زیور دیا، سب کا مجموعی زیور تو نصاب کو پہنچتا ہے لیکن ہر ایک کا الگ الگ زیور نصاب کو نہیں پہنچتا تو کیا وہ سب کے مجموعی زیور کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، آما بعد!

اگر اس نے ان کو یہ زیور عاریتہ دیا ہو تو یہ اس کی ملکیت ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ سارے زیور کو جمع کرے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا اور اگر اس نے اپنی لڑکیوں کو یہ زیور بطور ملک دے دیا ہو تو ان میں سے ہر لڑکی کا زیور ان کا ذاتی ملک شمار ہو گا اب ان لڑکیوں میں سے ہر ایک کے زیور کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک انفرادی طور پر لپیٹنے پہنچنے کی ملک ہے اور اگر ہر ایک کا زیور نصاب کے مطابق ہو تو اس میں زکوٰۃ ہو گی ورنہ نہیں۔

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اركان اسلام

عقائد کے مسائل : صفحہ 352

محمد فتوی